



S P F
30

UVB + UVA PA +++

High protection
Hoher Schutz
Haute protection

UVA absorbance: 90%

with lamellar technology

Body

Tan Activator Sculpt

Tan activating & sculpting
high sun protection
sensitive skin • non-comedogenic

Bräunungsaktivierendes und
straffendes Sonnenschutz-Gel
sensible Haut • nicht komedogen

Gel solaire activant
le bronzage et raffermissant
peau sensible • non comédogène



water resistant | wasserfest | résistant à l'eau



fragrance-free | ohne Parfum | sans parfum



helps to prevent sun allergies*
ideal bei Sonnenallergie*, nicht fettend
idéale contre les allergies solaires*, non gras

ADVANCED SWISS SUNCARE
Made in Switzerland

GB Fast-absorbing, non-greasy, non sticky UVA and UVB (SPF30) sun protection gel with GSP for Infrared protection, titanium dioxide for blue light protection, lamellar technology, an active ingredient to stimulate the production of melanin for a natural tanning process as well as Actiporine 8G (an algae extract) for a sculpting effect.

DE Schnell einziehendes, nicht fettendes, nicht klebendes UVA und UVB-Sonnenschutzgel (SPF30) mit GSP für Infrarotschutz, Titandioxid für Blaulichtschutz, Lamellar-Technologie, einem Wirkstoff zur Stimulierung der Melaninproduktion für einen natürlichen Bräunungsprozess sowie Actiporine 8G (ein Algenextrakt) für einen modellierenden Effekt.

The Allergy Seal of Quality is an independent label and has been developed in close cooperation with ahal Swiss Allergy Centre. Labelled products and services offer affected customers added value by increasing their safety and simplifying their everyday life.

Das Allergie-Gütesiegel zeichnet Produkte aus, die Menschen mit Allergien und Intoleranzen einen Mehrwert an Sicherheit und Informationen bieten. Sie werden von ahal Allergiezentrums Schweiz empfohlen.

Le label de qualité Allergie est un label pour des produits adaptés des personnes souffrant d'allergies et d'intolérances. Ils sont recommandés par ahal Centre d'Allergie Suisse.

FR Gel de protection solaire UVA et UVB (SPF 30) à absorption rapide, non gras et non collant, contenant du GSP pour la protection contre les infrarouges, du dioxyde de titane pour la protection contre la lumière bleue, la technologie lamellaire, un ingrédient actif qui stimule la production de mélanine pour un bronzage naturel ainsi que de l'Actiporine 8G (un extrait d'algues) pour un effet sculptant.

IT Gel solare UVA e UVB (SPF30) a rapido assorbimento, non grasso e non appiccicoso, con GSP per la protezione dagli infrarossi, biossido di titanio per la protezione dalla luce blu, tecnologia lamellare, un principio attivo che stimola la produzione di melanina per un processo di abbronzatura naturale e Actiporine 8G (un estratto di alghe) per un effetto modellante.

NL Snel absorberende, niet-vette, niet-klevende UVA- en UVB (SPF30) zonbeschermingsgel met GSP voor infraroodbescherming, titaniumpigment voor bescherming tegen blauw licht, lamellaire technologie, een actief ingrediënt om de melaninproductie te stimuleren voor een natuurlijk bruiningsproces, olsmede Actiporine 8G (een algenextract) voor een modellering effect.

FI Nopeasti imeytyvä, rasvaton ja tahmea UVA- ja UVB-auringosjägeeli (SPF30), jossa on GSP:itä infrapunausjöiden varren, titaniiumdiosidin sinisen valon suojaavan varren, lamelli tekniikkaa, aktiivista inososaaka, joka stimuloi melaninin tuotantoa luonnonmukaisesti ja sekin Actiporine 8G:itä (leviäteute), joka vakuuttaa muotolevivastia.

www.ultrasun.com

Ultrasun AG, 8045 Zurich, Switzerland

Ultrasun UK Ltd, Redhill, GB-Surrey RH1 2NB, UK

Lolique Beauty Distribution SARL, 77760 Ury, France

SV Snabbabsorberande, icke-fet och icke-klibbig UVA- och UVB-solskyddsgel (SPF30) med GSP för skydd mot infrarött ljus, titandioxid för skydd mot blått ljus, lamellar teknologi, en aktiv ingrediens för att stimulera produktionen av melanin för en naturlig solbränna samt Actiporine 8G (ett algeextrakt) för en skulpterande effekt.

KO 빠른 흡수, 고집성, 고집성 없는 UVA 및 UVB(SPF30) 차외선 차단 젤, 적외선 차단용 GSP, 블루라이트 차단용 이산화티타늄, 라멜라 기술, 천연 태닝 과정을 위한 멜라닌 생성을 촉진하는 활성 성분 조각 효과를 위한 Actiporine 8G(조류 추출물)뿐만 아니라.

JA 吸収が早く、べたつかないUVA・UVB (SPF30) サンケアジェル。赤外線防御のGSP、ブルーライト防御の酸化チタン、ラメラテクノロジー、メラニンの生成を促して自然に日焼けさせる有効成分、アクティポリン8G（アルゲエキス）を配合しています。

AR جل حماية من أشعة الشمس UVA و UVB (SPF30) سريع الامتصاص وغير دهني وغير لزج مع لحماية الأشعة تحت الحمراء، وثاني أكسيد التيتانيوم لحماية الضوء الأزرق، وتكتوجوبا، lamellar، وهو عنصر نشط لتحفيز إنتاج الميلانين لعملية ديايغة طبيعية مثل وكذلك التحفيز للتحفظ الطحالب (تأثير النحت).

Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Glycerin, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Nano), Titanium Dioxide (Nano), Ethylhexyl Salicylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl Benzolate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzozate, Acrylates Copolymer, Ethylhexyl Triazone, C8-22 Alkyl Acrylates/Methacrylic Acid Cross-polymer, Squalane, Cocoglycerides, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Vitis Vinifera Seed Extract, Decyl Glucoside, Silica, Propyl Alcohol, Dihydroxy Methylchloronyl Palmitate, Sodium Hydroxide, Alcohol, Cetyl Phosphate, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Jania Rubens Extract, Lecithin, Tocopherol Acetate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopherol, Diisopropyl Adipate, Ubiquinone.

EcoSun Pass is either a registered trademark or a trademark of BASF SE in the European Union and/or other countries.

* Radical Skin Protection Studies, Gematria Test Lab GmbH, Berlin, May 2019



Ultrasun Sun Account

Maximum recommended sun exposure time per day based on your skin type, sun intensity and sufficient application:

		SPF 30			
		Skin's natural self protection time	Calculated maximum exposure time	Safety reduction*	Maximum recommended exposure time
Phototype 1 Light / Pale White	Normal sun	10 min	5 h	-30%	3 h 30 min
	Extreme sun	3 min	1 h 30 min		1 h 03 min
Phototype 2 White / Fair	Normal sun	20 min	10 h	-30%	7 h
	Extreme sun	10 min	5 h		3 h 30 min
Phototype 3 Medium / White to Olive	Normal sun	30 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	20 min	10 h		7 h
Phototype 4 Olive / Medium Brown	Normal sun	45 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	30 min	10 h+		7 h+
Phototype 5 Brown / Dark Brown	Normal sun	60 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	45 min	10 h+		7 h+
Phototype 6 Black / Very Dark Brown to Black	Normal sun	90 min	10 h+	-30%	7 h+
	Extreme sun	60 min	10 h+		7 h+

*Repeated activity such as swimming, perspiring or towel drying can reduce your protection time. Please use this table as a guide only.

GB Always apply sun protection generously, 15 to 30 minutes before sun exposure. Any less, radically reduces the protection effect. Even sun protection with high SPF does not grant full protection. Keep babies and young children out of direct sunlight and protect them with a high sun protection factor (\geq SPF30) and appropriate clothing. Avoid midday sun. Generally one application is sufficient but consider another application after extensive sweating, swimming or towel drying. Avoid contact with clothing as direct contact may stain. Avoid contact with the eyes.

DE Sonnenschutz immer 15 bis 30 Minuten vor der Sonnenexposition großzügig auftragen. Zu gering aufgetragene Mengen reduzieren die Schutzeffekt markant. Auch Sonnenschutzprodukte mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz. Babys und Kleinkinder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und gleichzeitig schützende Kleidung sowie Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (\geq SPF30) verwenden. Intensive Mittagssonne meiden. Eine Anwendung kann gemäss Ihrem persönlichen Sonnenkonto reichen. Wiederholt auftragen, insbesondere nach intensivem Schwitzen, dem Aufenthalt im Wasser und Abtrocknen. Kontakt mit der Kleidung vermeiden – kann abfärben. Augenkontakt vermeiden.

FR Toujours appliquer une couche généreuse de protection solaire 15 à 30 minutes avant l'exposition. Une application insuffisante réduit considérablement l'effet protecteur. Attention, même les crèmes solaires à indice de protection élevé ne garantissent pas une protection totale. Les bébés et les jeunes enfants ne doivent pas être exposés directement au soleil. Il est important de les protéger avec un indice de protection solaire élevé (\geq SPF30) et des vêtements adaptés. Éviter le soleil de midi. Une seule application est généralement suffisante mais une nouvelle application est conseillée en cas de transpiration abondante, après un bain ou après séchage avec une serviette. Éviter le contact direct avec les vêtements, risque de taches. Éviter le contact avec les yeux.

IT Applicare la protezione solare abbondantemente 15-30 minuti prima dell'esposizione al sole. Piccole quantità di prodotto riducono significativamente il livello di protezione. Anche le crema solari con indice di protezione molto alto non assicurano una protezione completa. Evitare di esporre neonati e bambini alla luce diretta del sole e proteggerli con un fattore di protezione solare elevato (\geq SPF30) e con un abbigliamento adeguato. Evitare il sole di mezzogiorno. Di norma un'applicazione è sufficiente, si consiglia tuttavia di riapplicare il prodotto specificamente in caso di elevata traspirazione, bagno in mare o in piscina o dopo l'uso dell'asciugamano. Evitare il contatto con i vestiti: il prodotto potrebbe macchiare. Evitare il contatto con gli occhi.

NL UV-bescherming altijd rijkelijk aanbrengen, 15 tot 30 minuten voor blootstelling aan de zon. Minder grondig toepassen verlaagt de beschermende werking. Zelfs zonnecremes met hoge SPF bieden geen volledige bescherming. Baby's en jonge kinderen niet blootstellen aan direct zonlicht en ze beschermen met een hoge zonnefactor (\geq SPF30) en geschikte kleding. Vermijd de middagzon. Doorgaans is een keer aanbrengen voldoende maar breng nogmaals aan na veel transpireren, zwemmen of afdragen met de handdoek. Vermijd contact met kleding aangezien direct contact vlekken kan veroorzaken. Vermijd contact met de ogen.

FI Levitä a urinkosuoja aina runsaasti 15–30 minuuttia ennen uringossa oleskelua. Pienempi määrä vähentää merkitövästi suojovalkutusta. Korkoilla suojaerkotimellakossa varustetut voileet eivät suoja auringolta täysin. Älä alista vauvaja ja pieni lapsia suojausoralle auringonvalolle ja suoja heidät korkoilla suojaerkotimella (\geq SPF 30) sekä sopivalla vaatetuksella. Vältä keskipäivän aurinkoa. Yleensä yksi levitys riittää, mutta lisää tuotetta voimakkaan hikoilun, uininn tai ihon kuivamisen jälkeen. Vältä tuotteen joutumista suoraan vaatteelle, jotta ne eivät likaannu. Vältä tuotteen joutumista silmiin.

SV Applicera alltid rikligt med solskyddsmedel 15 till 30 minuter innan exponering för solen. Vid otillräcklig mängd blir den skyddande effekten starkt reducerad. Inte ens solkrämmer med hög SPF-faktor garanterar ett fullgott skydd. Håll spädbarn och små barn borta från direkt solljus och skydda dem med en hög solskydds faktor (\geq SPF30) och lämplig klödsel. Undvik att sitta mitt på dagen. Normalt räcker en applicering men överväg ytterligare appliceringar om du har svettats, simmat eller torkat dig mycket. Undvik kontakt med klöder eftersom direktkontakt kan ge fläckar. Undvik kontakt med ögonen.

KO 태양에 노출하기 15 내지 30 분 전에 항상 자외선 차단제를 충분히 바르십시오. 적게 바르면 차단 효과가 급격히 떨어집니다. SPF가 높은 자외선 차단제도 피부를 완전히 보호하지 못합니다. 아기와 어린이는 직사 광선을 씌지 않도록 하고 자외선 차단 지수로 높은 (SPF30 이상) 제품으로 보호하고 적절한 의복을 입하십시오. 한낮의 태양은 피하십시오. 일반적으로 한 번 바르는 것으로 충분하나 땀을 많이 흘리거나 수영 또는 태양에 닦은 후에는 다시 바르는 것이 좋습니다. 옷에 직접 닦으면 얼룩이 짙 수 있으므로 옷에 닿지 않도록 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.

JA 日光を浴びる 15～30 分前に必ず日焼け止めをたっぷり塗ってください。量が少ないと保護効果が著しく低下します。SPF 値の高い日焼け止めだけでは十分な保護効果は得られません。乳幼児やお子様は直射日光を避けて日焼け止め (SPF30 以上) を塗り、適した衣服を着せてください。真昼の太陽は避けしてください。通常は1回の塗布で十分ですが汗をかいたり、泳いだり、タオルで拭いたりしたあとは再度塗るよう心がけてください。衣服に直接付着するとシミになる場合があります。目に直接入れないでください。

AR قم دائمًا بوضع طبقة وفيرة من دهان الحماية من أشعة الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس بفترة تترواح بين 15 و30 دقيقة. إذا تم وضعه قبل التعرض لأشعة الشمس بوقت أقل من المذكور، فسينخفض تأثير الحماية بشكل كبير. ومع ذلك فإن دهان الحماية من أشعة الشمس يعامل وقاية من أشعة الشمس (SPF) مرتفع لا يوفر الحماية الكاملة. لا تردد في التعرض للأطفال الصغار لأشعة الشمس المباشرة. وقم بوضع واقي شمسي بعامل وقاية من أشعة الشمس عالي (\geq SPF30) على جسمك. احتفظ بألبسة ملائمة تقيهم من أشعة الشمس. تجنب شمس الظهيرة. يُعد وضع الواقي الشمسي مرة واحدة كافياً بشكل عام، ولكن ينبغي أن يُرَاعَي وضع الواقي الشمسي مرة أخرى بعد التعرق المفرط، أو السباحة، أو التجفيف منشفة. تجنب ملامسة المنتج للملابس مباشرةً لأنّه قد يتسبّب في حدوث بقع. تجنب ملامسة المنتج للعينين.